



## رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھ کو تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ ﷺ بھی تو وصال کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھ کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے“ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے اگر کوئی وصال کرنا چاہے، تو سحری کے وقت تک وصال کر لے“  
[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کو رحمت و شفقت کے بہ سبب صوم وصال سے منع فرمایا تاہم صحابہ چونکہ فضیلت پانے کی چاہت اور ہر ایسا عمل کرنے کی حرص رکھتے تھے، جو انہیں اللہ کے قریب کر دے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ نبی ﷺ کے صوم وصال میں افتدا کریں اس لیے وہ کہنے لگے: آپ بھی تو وصال کرتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے انہیں فرمایا کہ انہیں تو ایک ذات کھلاتی اور پلاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی تاہم تم میں سے اگر کوئی وصال کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سحری کے وقت تک وصال کرے شریعت اسلامی بہت کشادہ اور آسان ہے اس میں نہ کوئی مشکل ہے، نہ مشقت اور نہ ہی غلو اور تعمق کیوں کہ صوم وصال نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے اور مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے جب کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا نیز یہ کہ آسانی اور سہولت کی وجہ سے عمل زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے تھکاوٹ اور اکتاہٹ نہیں ہوتی اس حدیث میں اس عدل کا ذکر ہے، جسے اللہ نے زمین میں رکھا ہے یعنی اللہ کا مطالبہ عبادت پورا کیا جائے اور نفس کو وہ چیزیں عطا کی جائیں، جو اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4524>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

